



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

بینک چارجز کا شیڈول

برائے عرصہ
۰۱ جولائی ۲۰۲۶ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۶



تجارتی مالیات

I- درآمدات

۱- لیٹرز آف کریڈٹ کا اجراء دوبارہ توثیق بشمول فراہم کنندہ کی قیمت/فراہم کنندہ کا قرض

پہلی سہ ماہی یا اُس کا کچھ حصہ: 0.40% تک

بعد کی سہ ماہی یا اُس کا کچھ حصہ: 0.25% تک

کم از کم چارجز: 1,500/- روپے

۲- ناقابل واپسی لیٹرز آف کریڈٹ: درج بالا 1' کے جیسا، مع 0.60% سادہ

۳- اے سی یو (ACU) رکن ممالک کیلئے کھولے گئے LCS: جیسا درج بالا 1' میں ہے

۴- ترمیمات رقم بڑھانے یا معاد کی توسیع کیلئے جیسا درج بالا 1' میں ہے تمام ترمیمات کیلئے فی ترمیم-1,000 روپے

۵- Usance/Deferred پیمنٹ LCS کے تحت قبولیت: 1,000/- روپے فی بل/ڈاکومنٹس، مع 0.10% کمیشن فی ماہ تک یا ایل سی کی میعاد سے پہلے تک کا کچھ حصہ یا بل کے اختتام (ریٹائرمنٹ) تک جو بھی پہلے ہو۔

۶- ریٹائرمنٹ چارجز: (LC اور کنٹریکٹ) ڈاکومنٹ کی رقم کے 0.10% تک؛ کم از کم -1,000 روپے مع ادائیگی چارجز (ری ایکسٹریٹنگ بینک کو قابل ادا) اصل کے ساتھ مع سوفٹ چارجز نہیں ہیں بشرطیکہ ایل سی 100% کیش مارجن کے بدلے ہے۔

۷- پیشکش یا قبولیت سے پہلے ہی سائٹ LCS کے تحت امپورٹ بلز پر مراجم/مساومہ کی قیمت لگائے جانے کو طے کر لیا جائے گا

۸- امپورٹ کنٹریکٹ کی رجسٹریشن: Re.0.45/1,000 روزانہ اگر بیل تاریخ مذاکرات سے 15 دن کے اندر اندر ریٹائر ہو جائے تو

Re.0.51/1,000 روزانہ اگر بیل تاریخ مذاکرات سے 30 دن کے اندر اندر ریٹائر ہو جائے تو

Re.0.57/1,000 روزانہ اگر بیل تاریخ مذاکرات سے 30 دن کے اندر اندر ریٹائر ہو جائے تو

0.125% تک (کم از کم -1,250 روپے)

۹- رجسٹرڈ امپورٹ کنٹریکٹ میں ترمیم: -1,200 روپے (سادہ) اگر رقم میں اضافہ درج بالا 9 کے مطابق ہے۔

۱۰- درآمدات (امپورٹس) کے بدلے لینے کی ادائیگی: 0.10% یا کم از کم -2,000 روپے سادہ (ری ایکسٹریٹس چارجز کے علاوہ)

۱۱- کلیکشن (ادائیگی) کیلئے ان ورڈ ڈاکومنٹری بل: 0.125% (کم از کم -1,250 روپے)

۱۲- کلیکشن (قبولیت) کیلئے ان ورڈ ڈاکومنٹری بل: 0.125% (کم از کم -1,250 روپے)

۱۳- کلیکشن (ریٹائرڈ آن پیڈ) کیلئے ان ورڈ ڈاکومنٹری بلز: -100 امریکی ڈالر (یا فارورڈنگ بینک سے مساوی غیر ملکی کرنسی) مع سوفٹ چارجز

۱۴- درآمد LC کے بدلے پیمنٹ/کنٹریکٹ جہاں ڈاکومنٹس درآمد کار (ترسیلات چارجز) کی جانب سے براہ راست حاصل کیے جاتے ہیں: -1,500 روپے مع 0.20% سروس چارجز

۱۵- ڈاکومنٹس کے حصول سے قبل ایروے بل (AWB) کی انڈورسمنٹ: -1,650 روپے AWB

۱۶- شپنگ گارنٹی کا اجراء: -1,650 روپے فی شپنگ گارنٹی مع 110% کیش مارجن (برائے سائٹ ایل سی)

۱۷- ترسیلات سرٹیفکیٹ کا اجراء جہاں دوسرے بینک کے LCS کی ادائیگی ہمارے ذریعے کی جاتی ہے: -500 روپے فی سرٹیفکیٹ

۱۸- درآمد LC کے تحت ڈسکریٹ پیمنٹ ڈاکومنٹس کی ہینڈلنگ: -90 امریکی ڈالر فی بل

۱۹- LC اور کنٹریکٹ منسوخی چارجز: -1,500 روپے سادہ فی منسوخی میں اصل کرو سپونڈنٹ بینک چارجز کے ساتھ سوفٹ چارجز

۲۰- بینک کی جانب سے منظور یا عائد کردہ کلیئرٹس ٹرمز آف لمٹ کے تحت کنسائنمنٹ کی کلیئرٹس: کنسائنمنٹ کی سی اینڈ ایف ویلیو پر کمیشن 0.25% کم از کم -1,000 روپے فی کنسائنمنٹ

۲۱- بینک ان لینڈ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت ڈاکومنٹس (دستاویزات کی مد میں ادائیگی) کی لاجسٹک: لاجسٹک کی تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 0.20% کے حساب سے کم از کم -500 روپے مع منافع 60 پیسہ کے حساب سے سی -1,000 روپے روزانہ

۲۲- ایکسچینج کے بجائے ہینڈلنگ چارجز جہاں امپورٹ کسی دوسرے بینک سے LC اپنڈ/کنٹریکٹ رجسٹر کرنے کیلئے غیر ملکی زرمبادلہ خریدتا ہے: 0.30% کم از کم -1,250 روپے

II- برآمدات

۱- لیٹرز آف کریڈٹ:

(ا) مشاورت: -1,800 روپے فی LC

(ب) ترمیم کا مشورہ: -1,200 روپے فی ترمیم



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

پ (LCs) پر تصدیق کی شمولیت
ہر معاملے کی الگ الگ بنیاد پر ملک اور بینک رسک پر انحصار، کم از کم 150 امریکی ڈالر فی سہ ماہی،
برآمد کار کی جانب سے قابل ادایا جس پر اس کا اطلاق ہو کی جانب سے قابل ادا

ت (ایل سی کی منتقلی):	-/1,500 روپے مع سوئفٹ چارجز
ٹ (LC کے تحت Rupee بلز کے مذاکرات)	0.25% کم از کم -/500 روپے
۲- ووسٹر واکاؤٹس سے دوسرے بینکس کو اخراجات کی ادائیگی	-/1,000 روپے فی ٹرانزیکشن
۳- دوسرے بینکس پر پابند LCs کے تحت ڈاکومنٹس کی کارروائی:	-/1,000 روپے فی ڈاکومنٹ
۴- ڈیوٹی ڈرائیگ کلیمز کی بینڈنگ:	0.25% کم از کم -/1,000 روپے فی کلیم
۵- ڈاکومنٹری کلکیشن:	-/1,000 روپے فی کلکیشن
۶- ایکسپورٹ ڈاکومنٹس پر سروس چارجز:	ریٹلائزیشن پر 0.15% تک (کم از کم -/2,000 روپے)
۷- ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرجارج بینڈنگ چارجز:	-/80 روپے فی بل ریٹلائزڈ
۸- ریزرو کے تحت طے پائی گئیں Unrealized دستاویزات:	کسٹمر سے مذاکرات کی تاریخ سے ریکوری تک -/0.57/1,000 روپے روزانہ
۹- ایڈوائس بینٹ پروسیڈنگ	0.15% کم از کم -/1,000 روپے
۱۰- ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کلیم پروسیڈنگ چارجز	کلیم کی رقم کا 0.50% کم از کم -/1,000 روپے فی پروسیڈنگ
۱۱- دوسرے بینک کیلئے این او سی کا اجرا	-/1,000 روپے سادہ فی این او سی
۱۲- ای ای/ای ایف/ویر پیکیشن پروسیڈنگ فیس:	-/1,500 روپے فی معاملہ سادہ
۱۳- فرائٹ سبسڈی بینڈنگ چارجز	کم از کم -/1,000 روپے کے ساتھ 0.35% فی کلیم

III- لوکل ٹریڈ

۱- لیٹر آف کریڈٹ کے اجرا کے چارجز	0.40% تک
پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	0.25% تک
بعد کی سہ ماہی یا اس کے بعد کا کچھ حصہ	کم از کم چارجز
۲- ترمیمات	رقم بڑھانے یا معافی کی توسیع کیلئے جیسا درج بالا 1 میں ہے تمام ترمیمات کیلئے فی ترمیم -/1,000 روپے
۳- ایکسپنٹس کمیشن:	-/1,000 روپے فی بل/ڈاکومنٹ مع 0.15% کمیشن فی ماہ تک یا LC کی میعاد سے پہلے تک کا کچھ حصہ یابل کے اختتام (ریٹلائزمنٹ) تک جو بھی پہلے ہو۔
۴- مراہجہ/مساومہ پرائسنگ آن پیڈ سائٹ بلز (اشیا کی مد میں ادائیگی)	Re.0.41/1,000، روزانہ اگر بیل مذاکرات کی تاریخ سے 10 دن کے اندر اندر ریٹائر Re.0.45/1,000، روزانہ اگر بیل مذاکرات کی تاریخ سے 15 دن کے اندر اندر ریٹائر Re.0.57/1,000، روزانہ اگر بیل مذاکرات کی تاریخ سے 15 دن کے بعد ریٹائر ہو جائے
۵- مذاکرات (نگویشن)/اختتام (ریٹلائزمنٹ) چارجز:	بیل ماؤنٹ کا 0.50% فی ڈاکومنٹ کم از کم -/1,000 روپے
۶- ڈاکومنٹری کلکیشنز ان ورڈ:	0.50% فی ڈاکومنٹ، کم از کم -/1,000 روپے
۷- ڈاکومنٹری کلکیشنز آؤٹ ورڈ:	0.50% فی ڈاکومنٹ، کم از کم -/1,000 روپے

کیش سروسز

۱- فارن ریمیٹنسز

۱- آؤٹ ورڈ ٹیلی گرافک ٹرانسفر	-/15 امریکی ڈالر ما س کے مساوی
۱ آؤٹ ورڈ ایف ٹی ٹی چارجز ایم ٹی 103	OUR ہدایت کے ساتھ ٹرانزیکشنز کے لیے نمائندے کے چارجز طے شدہ معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے
ب آؤٹ ورڈ ایم ٹی 202 چارجز	نمائندے کے چارجز طے شدہ معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے
۲ ان ورڈ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ایم ٹی 103	ان ورڈ ایم ٹی 103 نمائندے کے چارجز طے شدہ معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے
۱ ان ورڈ MT202 COV چارجز	مراسلہ بینک کے اخراجات/چارجز، باہمی تقاضات کے مطابق اصل لاگت کے حساب سے وصول کیے جائیں گے۔
ب ان ورڈ MT202 COV ٹریڈ	نامہ نگار چارجز معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۳۔ متنوع

۱۔ ٹیلی گرافک ٹرانسفر

عدم ادائیگی کی تصدیق موصول ہونے پر 10 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم وصول کی جائے گی۔

ب۔ انکمیشنٹ سرٹیفکیٹس کے اجراء

تین ماہ سے زائد پرانی ترسیلات کے لیے 500 روپے، جبکہ دو سال سے زائد پرانی ترسیلات کے لیے 1,000 روپے وصول کیے جائیں گے۔

II۔ فارن کلکیشن

۱۔ باہر جانے والا (آؤٹ ورڈ):

-12.5 امریکی ڈالر یا مساوی فی کلکیشن

۲۔ اندر آنے والا (ان ورڈ):

-12.5 امریکی ڈالر یا مساوی مع DD/TT چارجز جیسا کہ اوپر 'A' میں ہے فی انسٹرومنٹ

۳۔ آؤٹ ورڈ بلز ریٹرنڈ آن پیڈ:

-750 روپے

۴۔ پروسیڈرز ریٹرنڈ نیشنل سرٹیفکیٹس کا اجراء:

3 ماہ سے زائد پرانے ریٹرنڈ سرٹیفکیٹس -500 روپے فی سرٹیفکیٹ، 2 سال سے زائد پرانے ریٹرنڈ سرٹیفکیٹس -1,000 روپے فی سرٹیفکیٹ

III۔ فارن کرنسی انسٹرومنٹس کی خریداری

(پروڈینشل ریگولیشنز کی طرف سے مجوزہ حدود کے مطابق)

۱۔ TCs کی بھنائی:

1.0% کم از کم -5 امریکی ڈالر

IV۔ فارن ایکسچینج پرنٹس اور "ایم" فارم کی منظوری (تمام اقسام)

۱۔ تازہ معاملہ

-2,000 روپے

۲۔ ہر اگلی تجدید کیلئے

-1,500 روپے

۳۔ "ایم" فارم پروسیسنگ

-250 روپے

V۔ لوکل ریٹرنڈ

۱۔ پے آرڈرز کا اجراء

کوئی قیمت نہیں

۲۔ سی ڈی آر کا اجراء

کوئی قیمت نہیں

۳۔ روپی ٹریڈر چیکس کا اجراء

اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے مفت

۴۔ متنوع

(ا) پے آرڈر اور سی ڈی آر (اگر متنوع پراسل واپس کر دیا گیا ہو)

-300 روپے

(ب) پے آرڈر اور سی ڈی آر (چوری یا گم ہو جانے کی صورت میں/ ڈپلیکیٹ کا اجراء)

-300 روپے

V۔ مقامی یا لوکل کلکیشن

۱۔ باہر جانے والا (آؤٹ ورڈ)

0.05% کم از کم -150 روپے

۲۔ باہر جانے والا (آؤٹ ورڈ) ریٹرن چارجز

-250 روپے

۳۔ بیرون شہر/انٹرنیٹ کیلکیشن

-200 روپے فی چیک

۴۔ بیرون شہر/انٹرنیٹ ریٹرن چارجز

-200 روپے فی چیک



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

VII - پیشگی / قرضہ جات قانونی مشاورت (لیگل کونسل)

۱- اندرون خانہ قانونی اعانت (ان ہاؤس لیگل اسسٹنس)	-/2,500 روپے کم از کم فی ڈاکومنٹ/کیس اصل پر
۲- پروجیکٹ ایگزیکشن فیس	درخواست کردہ سہولیات کے 1% تک جہاں قابل اطلاق ہو
۳- آرٹیکل / سینڈیکیشن فیس	صارف کے ساتھ باہمی معاہدے کے مطابق
۴- ڈاکومنٹیشن چارجز	اصل: مع -/1,000 روپے تک، ڈاکومنٹس ویننگ چارجز جیسے اور جہاں لاگو ہوں
۵- سکیورٹی ڈیمینٹس چارجز	کم از کم -/5,000 روپے یا جیسا کلائنٹ کے ساتھ طے کیا گیا ہو
۶- فیسٹیٹی ریو فیس	پہلے سے طے کردہ معاہدے کے مطابق بینک کسٹمر سے پروسیڈنگ اور تشخیص کی مقررہ فیس چارج کر سکتا ہے۔
۷- فنانسنگ کی تشخیص / ضرورت تشخیص فیس	ریفیس کسی مخصوص مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے یا مالیاتی رقم کی فیصد یا شروط کے طور پر عائد نہیں کی جائے گی۔

(Mortgages) مرہونہ جات

(i) پراپرٹی تشخیص / تخمینہ چارجز	اصل
(ii) تکافل / انشورنس	اصل
(iii) ایڈمنسٹریٹو چارجز	جیسا لاگو ہو
(ب) مرہونہ اشیا (پلیجڈ اسٹاک)	
(i) گودام کا کرایہ	اصل
(ii) گودام عملے کی تنخواہیں	اصل
(iii) گودام کا معائنہ	اصل پر
(iv) ڈیلیوری سپروژن چارجز	اصل پر
(v) مقدم چارجز:	اصل
(vi) ڈیلیوری آرڈر کا اجرا	-/250 روپے فی ڈیلیوری آرڈر
(vii) تکافل / انشورنس پریمیم	اصل
(viii) تجارتی اشیا کا طبعی معائنہ	اصل
(پ) مرہون ضمانتیں	
(i) اشیا کے معائنے کے چارجز	اصل پر
(ii) تکافل / انشورنس پریمیم:	اصل پر
(ت) ضمانتیں اور محفوظ قبضہ کی خدمات (اسلامک)	
(i) اکاؤنٹ اوپننگ اینڈ مینٹنس چارجز:	-/1,500 روپے افراد کیلئے، -/2,000 روپے دیگر صارفین کیلئے سالانہ چارجز، براہ راست قابل ادا۔
(ii) محفوظ قبضہ - شیئرز / سکیورٹیز پر	0.10% سادہ، براہ راست قابل ادا، سہ ماہی کے آغاز پر شیئرز / سکیورٹیز کی مارکیٹ ویلیو پر ہر تین ماہ میں (جیسا معاملہ ہو)
(iii) ہینڈلنگ - شیئرز / سکیورٹیز کی فروخت / خرید	شیئرز / سکیورٹیز کی مارکیٹ ویلیو یا لاگت (جیسا معاملہ ہو) پر 0.10% سادہ
(iv) ہینڈلنگ - ڈپازٹ / ووڈرال شیئرز / سکیورٹیز*	ڈپازٹ / ووڈرال کی تاریخ پر مارکیٹ ویلیو یا لاگت (جیسا معاملہ ہو) پر 0.10% سادہ
(v) محفوظ قبضے میں موجود شیئرز پر پروفٹ / ریٹرن / ڈیویڈنڈز کی وصولیابی*	جمع شدہ پروفٹ / ریٹرن / ڈیویڈنڈز کی رقم پر 0.10% سادہ



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

اصل

(vi) بینک/انشورنس، اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز، بروکرینجز، ٹرانسفر فیس،

سی ڈی سی چارجز، رجسٹریشن فیس، پونج اور کوریئر چارجز

* یہ سروسز چارجز ہمارے شیئرز/اسکیورٹیز کے بدلے قرضہ جات پر لاگو نہیں ہوتے۔

اصل

(vii) سرچرپورٹس

-3,000/- روپے

(viii) ایس بی پی کے ساتھ قرضے کی رجسٹریشن:

-VIII ضمانتیں

ا۔ بینک گارنٹی (سلیب)

چارجز فی سہ ماہی		رقم کا دائرہ	
بعد کی سہ ماہی یا اُس کا کچھ حصہ	پہلی سہ ماہی یا اُس کا کچھ حصہ		
1,750	2,000	500,000	تک رقم
2,800	3,200	800,000	500,001
3,500	4,000	1,000,000	800,001
5,250	6,000	1,500,000	1,000,001
7,000	8,000	2,000,000	1,500,001
8,750	10,000	2,500,000	2,000,001
10,500	12,000	3,000,000	2,500,001
12,250	14,000	3,500,000	3,000,001
14,000	16,000	4,000,000	3,500,001
15,750	18,000	4,500,000	4,000,001
17,500	20,000	5,000,000	4,500,001
19,250	22,000	5,500,000	5,000,001
21,000	24,000	6,000,000	5,500,001
22,750	26,000	6,500,000	6,000,001
24,500	28,000	7,000,000	6,500,001
26,250	30,000	7,500,000	7,000,001
28,000	32,000	8,000,000	7,500,001
31,500	36,000	9,000,000	8,500,001
33,250	38,000	9,500,000	9,000,001
35,000	40,000	10,000,000	9,500,001
43,750	50,000	12,500,000	10,000,001
52,500	60,000	15,000,000	12,500,001
61,250	70,000	17,500,000	15,000,001
70,000	80,000	20,000,000	17,500,001
78,750	90,000	22,500,000	20,000,001
87,500	100,000	25,000,000	22,500,001
96,250	110,000	27,500,000	25,000,001
105,000	120,000	30,000,000	27,500,001
113,750	130,000	32,500,000	30,000,001



122,500	140,000	35,000,000	32,500,001
131,250	150,000	37,500,000	35,000,001
140,000	160,000	40,000,000	37,500,001
148,750	170,000	42,500,000	40,000,001
157,500	180,000	45,000,000	42,500,001
166,250	190,000	47,500,000	45,000,001
175,000	200,000	50,000,000	47,500,001
183,750	210,000	52,500,000	50,000,001
192,500	220,000	55,000,000	52,500,001

نوٹ:

مجازا تھارٹی سے منظوری کے ساتھ درج بالا چارجز کی کاروباری غور و خوض / وعدوں کے لحاظ سے ترمیم کی جاسکتی ہے۔ بینک مکرمہ لمیٹڈ کے ریڈیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبرز نے بینک کو لیٹر آف گارنٹی کے اجراء کے وقت پیش کی جانے والی خدمات جیسا کہ ڈاکومنٹیشن، کریڈٹ اسسمنٹ، کرو سپونڈنس، اکاؤنٹ میئنٹنس، مانیٹرنگ، بینڈنگ آف ڈاکومنٹس وغیرہ کے عوض فیس چارجز کرنے کی اجازت دی ہے۔ -100 ملین روپے سے تجاوز کرنے والی تمام ضمانتوں پر ماہانہ -8,000 روپے ہر فی ملین (فی سہ ماہی یا کچھ حصہ) -4,000 روپے (بعد کی ہر سہ ماہی پر) سروس چارجز عائد ہوں گے۔

۲- ترمیمات

-1,000 روپے فی ترمیم رقم میں اضافے یا میعاد کی توسیع کو درج بالا 1 کے مطابق چارج کیا جائے گا

-1,000 روپے فی معاملہ

۳- ایس بی پی سے ضمانتوں کی منظوری

IX- کنزرویٹو بینکنگ

(i) بینک مکرمہ آٹو اجارہ:

-7,500 روپے (نئی/استعمال شدہ گاڑی) فی معاملہ براہ راست (نا قابل واپسی)

(i) پروسیڈنگ فیس

اصل کے مطابق

(ii) وہیکل رجسٹریشن چارجز

-1,200 روپے فی تاخیر واجب الادا قسط

(iii) تاخیری کرایہ ادائیگی پر صدقہ

01 سال کے اندر بقایا اصل رقم کا 5%

(iv) جلد تصفیہ پر قیمت خرید

01 سال کے بعد بقایا اصل رقم کا 3%

-50,000 روپے یا اصل (جو زیادہ ہو) + ٹیکس

(v) دوبارہ قبضہ چارجز

-1,000 روپے فی واپسی

(vi) چیک واپسی چارجز

اصل کے مطابق

(vii) وہیکل ٹکافل/ٹریکر

اصل کے مطابق

(viii) وہیکل تخصیص/تخمینہ چارجز (استعمال شدہ گاڑیاں)

اصل کے مطابق

(ix) لیگل نوٹس فیس

اصل لاگت پر

(x) نادہندہ کلائنٹس سے واپس لی گئیں گاڑیوں کی فروخت کیلئے اشتہار

بینک کے پاس لاگو ہونے والے وعدوں کی بنیاد پر آئندہ مدت کیلئے کرائے/اصل کی وقفہ وقفہ سے از سر نو غور کرنے کے حقوق محفوظ ہیں

(ب) بینک مکرمہ ہاؤسنگ فنانس (ڈسٹنٹ مشارکہ)

0.05% یا -8,000 روپے (جو زیادہ ہو) نا قابل واپسی

(i) پروسیڈنگ فیس

اصل کے مطابق

(ii) آمدن کے تخمینے کے چارجز

اصل کے مطابق

(iii) جائیداد کی جانچ کے چارجز

-1,500 روپے

(iv) تاخیری ادائیگی پر صدقہ

-500 روپے فی واپسی چیک

(v) چیک واپسی چارجز

ایک سال کے اندر بقایا اصل کا 5% اضافی قیمت اگر صارف اپنے ذریعے سے ادا کرتا ہے تو 1 سال بعد کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ اے ٹی ایف کی صورت میں اصل رقم کا 10% عائد کیا جائے گا

(vi) جلد تصفیہ چارجز



(vii) لیگل فیس	اندرون خانہ قانونی اعانت	-/2,500 روپے کم از کم فی ڈاکومنٹ/کیس
	بیرون خانہ قانونی اعانت	اصل پر
(viii) زندگی اور جائیداد کا مکافل/انشورنس		اصل کے مطابق
(پ) کنزیومرفنانس-ہوم اپلاٹمنز		
(i) پروسیڈنگ فیس	قرض کی رقم کا 1% یا -/2,000 روپے (جو بھی زیادہ ہو) تا قابل واپسی	
(ii) آمدن کے تخمینے کے چارجز	اصل کے مطابق (جہاں لاگو ہو)	
(iii) لائف تکافل/انشورنس	اصل کے مطابق (جہاں لاگو ہو)	
(iv) تاخیری ادائیگی پر صدقہ	-/1,500 روپے فی تاخیر واجب الادا قسط	
(v) چیک واپسی چارجز	-/500 روپے فی چیک واپسی	
(vi) جلد تصفیہ چارجز	1 سال کے اندر بقایا اصل رقم کا 5%	
	1 سال کے بعد بقایا اصل رقم کا 3%	

(vii) لیگل فیس	اندرون خانہ قانونی اعانت	-/2,500 روپے کم از کم فی ڈاکومنٹ/کیس
	بیرون خانہ قانونی اعانت	اصل پر
(ت) پرسنل فنانس-معاون		
پروسیڈنگ فیس	قرض کی رقم کا 1% یا -/2,000 روپے (جو بھی زیادہ ہو)	

-X کارپوریٹ/ایس ایم ای اجارہ		
(i) پروسیڈنگ فیس	1% فی معاملہ براہ راست یا صارف سے صارف کی بنیاد پر قابل مذاکرات	
(ii) ڈاکومنٹ چارجز	اصل	
(iii) دوبارہ قبضہ چارجز	اصل پر جیسا کہ ری پزیشن ایجنسیز نے مشورہ دیا ہو	
(iv) قانونی اخراجات	بینک کی جانب سے برداشت کیے گئے اصل پر	
(v) غیر ادا شدہ چیکس کی واپسی	-/1,000 روپے	
(vi) نادہندہ کلائنٹس سے واپس قبضے میں لی گئی اشیاء کی فروخت کیلئے اشتہار	اصل لاگت پر	

-XI متفرق چارجز		
-I مکرمہ کلاسک اکاؤنٹ		

مکافل پلان کی قسم	ماہانہ اوسط ڈپازٹ متوقع کورٹ مکافل چارجز	مکافل چارجز	مکافل چارجز سالانہ
پلان A	-/250,000 روپے فی فرد (اصل کے مطابق)	-/250,000 روپے تک	-/2,200 روپے یا (اصل کے مطابق)
پلان B	-/100,000 روپے فی فرد (اصل کے مطابق)	-/100,000 روپے تک	-/1,650 روپے یا (اصل کے مطابق)
پلان C	-/50,000 روپے فی فرد (اصل کے مطابق)	-/50,000 روپے تک	-/1,100 روپے یا (اصل کے مطابق)

-2 مکرمہ سینیئر سٹیزن اکاؤنٹ		
درکار بیلنس	کوئی کم سے کم بیلنس لاگو نہیں	
چیک بک اجراء کے چارجز	-/20 روپے فی ورق مع گورنمنٹ کو واجب الادا محصولات، اگر ہوں	



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۳۔ آسان اکاؤنٹ			چیک بک اجراء کے چارجز	20/- روپے فی ورق مع گورنمنٹ کو واجب الادا محصولات، اگر ہوں
۴۔ انویسٹر پورٹفولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS) شریعہ سے ہم آہنگ ضمانتیں			ضمانت کی نقل و حرکت (دوسرے بینک کو)	500/- روپے فی ٹرانزیکشن سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
			ضمانت (خرید/فروخت)	500/- روپے فی ٹرانزیکشن سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
			اکاؤنٹ مینٹیننس	200/- روپے فی ٹرانزیکشن سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
			کلکیشن کوپن SPB سے (اسلامک انسٹرومنٹس)	
۵۔ فنڈ ٹرانسفر/ فنڈز آؤٹ فلو (3rd پارٹی) RTGS استعمال کرتے ہوئے				
			** فی لین دین پرائس بی بی کو	** فی لین دین پرائس ای بی ایل کا
			قابل ادا چارجز	شیر آف چارجز
(i) ایم ٹی 103 سہولت			(بذریعہ آر ٹی جی ایس کم سے کم رقم -/1,000,000 روپے یا زیادہ ہے)	
			لین دین کے اوقات *	
			صبح 9:00 تا دوپہر 1:00	200/- روپے
			دوپہر 1:00 تا سہ پہر 3:00	30/- روپے
			سہ پہر 3:00 تا 4:00	50/- روپے
				سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
(ii) ایم ٹی 102 سہولت			(بذریعہ آر ٹی جی ایس کم سے کم رقم -/100,000 روپے سے -/999,999 روپے ہے)	
			لین دین کے اوقات *	
			صبح 9:00 تا شام 04:00	25/- روپے
				سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
			*نوٹ: نظام الاوقات 5 کاروباری ایام یعنی پیر تا جمعہ تک ہیں۔ ایس بی بی کے رہنما اصول کے مطابق اوقات اور چارجز تبدیل ہو سکتے ہیں۔	
			**اسٹیٹ بینک کی ہدایت، ”ڈیجیٹل پیمنٹ سروسز کے استعمال کے فروغ سے کورونا وائرس (COVID-19) کے پھیلاؤ کو محدود کرنے والے اقدامات“ کی روشنی میں آر ٹی جی ایس کسٹمر ٹرانسفرز	
			(MT 102 & MT 103) پر عائد چارجز مزید ہدایات کے اجراء تک ختم کیے جا رہے ہیں۔	
۶۔ اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز			200/- روپے فی لین دین (دیگر لاگو چارجز کے علاوہ)	
۷۔ کم از کم بیلنس چارجز			تمام اقسام کے ڈپازٹ اکاؤنٹ پر کوئی کم از کم چارجز لاگو نہیں ہیں۔ تاہم صارف کو درج ذیل جدول کے مطابق کم از کم بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔	
اکاؤنٹ کی قسم			کم از کم درکار ماہانہ بیلنس	
کرنٹ			25,000/- روپے	
سیونگ			کوئی کم از کم بیلنس لاگو نہیں	
دیگر			10,000/- روپے	
کرنٹ			1,500/- امریکی ڈالر	
سیونگ			1,000/- امریکی ڈالر	
دیگر			1,000/- امریکی ڈالر	



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

نوٹ: بینک اپنی صوابدید پر کم سے کم مطلوب بیلنس نہ رکھنے والوں کا اکاؤنٹ بند کر سکتا ہے۔

۸- چیکس جو ادا ہوئے بغیر واپس ہوئے:

(۱) وہ چیک جو کہ اکاؤنٹ میں ناکافی رقم کی وجہ سے ہمیں واپس کیا گیا بہترین کاوش کی بنیاد پر رقم نکالنے والے اکاؤنٹ سے ہر چیک پر 500 روپے وصول کیے جائیں گے۔ (تمام معاملات میں یعنی کیش، کلیئرنگ، ٹرانسفر ڈیلیوری اور کیش ٹرانسفر)۔

(ب) باہر جانے والے کلیئرنگ چیکس جو ادا کیے بغیر واپس ہوئے

۹- چیکس کی اسٹاپ پیمنٹ 500/- روپے

۱۰- حسابات کے گوشوارے کی نقل 35/- روپے بشمول سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس فی گوشوارہ (یعنی 4.80 + 30.20 روپے)

۱۱- معیاری تعداد کے علاوہ حسابات کے گوشوارے کا اجرا 35/- روپے بشمول سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس فی گوشوارہ

۱۲- اکاؤنٹ بیلنس / اکاؤنٹ ایکٹیویٹی سرٹیفکیٹ / بیلنس کنفرمیشن / اینیگر انٹ سیلے بینک سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی فیس / اور سیز ایمپلائمنٹ

۱۳- کریڈٹ رپورٹ کا اجرا 300/- روپے فی رپورٹ، اکاؤنٹ ہولڈر یا کرو سپونڈنٹ بینک سے قابل واپسی، جیسا لاگو ہو

۱۴- چیک بک کا اجرا اور تنسیخ 20/- روپے فی ورق مع گورنمنٹ کو واجب الادا محصولات، اگر ہوں

اگر صارف 90 دنوں کے اندر متعلقہ برانچ سے چیک بک وصول نہیں کر پاتا تو چیک بک ضائع کر دی جائے گی اور درج بالا چارجز وصول کیے جائیں گے۔

۱۵- اکاؤنٹ کلوزنگ چارجز

۱۶- کیش بینکنگ کے تحت کیش کلکیشن سروسز 1,000/- کم از کم روپے فی کلکیشن مع سیورٹی انتظامات کی لاگت

۱۷- کارپوریٹ تنخواہ کی تقسیم 50/- روپے فی ملازم کی تنخواہ کی ادائیگی مع ایک باریٹ اپ فیس

۱۸- اُسی دن کلیئرنگ کے چارجز 250/- روپے فی چیک

۱۹- آن لائن بینکنگ کیش / کلیئرنگ ٹرانزیکشنز مفت

۲۰- بینک مشین پر ATM کا استعمال مفت

۲۱- شیئر ڈسپوزیچن پر ATM کا استعمال متعلقہ بینک کے عائد کردہ واجبات کے مطابق

۲۲- ہولڈر میل چارجز 1,000/- روپے فی ششماہی

۲۳- تجارت سے متعلق کریڈٹ رپورٹس کا حصول اصل پر

۲۴- اولڈ ریکارڈ انفارمیشن چارجز 1 سال سے زیادہ - 300 روپے فی لین دین

۲۵- ڈیویڈنڈ وارنٹ پیمنٹ اور پروسیڈنگ (شریعت سے ہم آہنگ) 0.03% پر کمیشن مع ڈاک / کوریئر چارجز کی اصل رقم، کاروبار کے حجم پر نرخ کی مذاکرات کی بنیاد پر لاگو ہوگا

۲۶- مینڈیٹ - بینکر کو جاری خدمات انتظام کے مطابق

۲۷- کارپوریٹ کلکیشن (ہاسٹلرز، فیول اسٹیشنز وغیرہ) انتظام کے مطابق

XII- ٹیلی کمیونیکیشن چارجز

۱- سونٹ

(۱) درآمدی LCs: مکمل متن: 1,500/- روپے



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینک لمیٹڈ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

مختصر متن:	700/- روپے
ترمیمات:	700/- روپے
بیرونی TTs:	15 امریکی ڈالر یا مساوی
مقامی TTs:	500/- روپے
پ (دیگر):	700/- روپے
۲- کوریئر	بین الاقوامی
	2,500/- روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو
	بیرون شہر
	100/- روپے
	اندرون شہر
	35/- روپے
۳- ڈاک	بین الاقوامی
	برآمدی ڈاکومنٹس:
	اصل پر
	دیگر رجسٹرڈ:
	اصل پر
	دیگر آرڈری:
	اصل پر
	مقامی
	رجسٹرڈ:
	50/- روپے
	آرڈری:
	25/- روپے
۴- فیکس (فی صفحہ)	مقامی:
	100/- روپے
	بیرونی:
	200/- روپے
۵- ٹیلی فونز	تعمین شدہ اصل چارجز، جس کا انحصار کال کی طوالت پر ہے، کم از کم 200/- روپے

XIII - لاکرز

صارف سے وصول کیا گیا کرایہ صرف 1 ماہ (وہ ماہ جس میں لاکر صارف کو جاری کیا گیا ہو) کا شمار ہوگا اور بینک اپنی خدمات میں مزید 11 ماہ تک کی مفت توسیع کرے گا۔	
۱) کرایہ	چھوٹا:
	3,750/- روپے سالانہ
	درمیانہ:
	5,000/- روپے سالانہ
	بڑا:
	6,250/- روپے سالانہ
	انتہائی بڑا:
	7,000/- روپے سالانہ
ب) کی ڈپازٹ (پیشگی جمع ہو، اختتام پرواپس کیا جائے گا)	چھوٹا:
	4,000/- روپے
	درمیانہ:
	7,000/- روپے
	بڑا:
	10,000/- روپے
	انتہائی بڑا:
	12,000/- روپے
زیورینٹل لاکر: درج ذیل کے مطابق کی ڈپازٹ برقرار رکھنے والے صارفین کیلئے عرصہ کرایہ داری کے دوران لاکرز کا کرایہ ختم کر دیا جائے گا۔ (اختتام پر قابل واپسی)	
	چھوٹا:
	50,000/- روپے
	درمیانہ:
	80,000/- روپے
	بڑا:
	150,000/- روپے
	انتہائی بڑا:
	200,000/- روپے

پ) لیٹ فیس (لاکر کا کرایہ)

چھوٹے کیلئے - 150/- روپے

درمیانے کیلئے - 200/- روپے

بڑے کیلئے - 300/- روپے

انتہائی بڑے کیلئے - 500/- روپے ہر ماہ ایک ماہ کی اضافی مدت کیلئے۔

بینک لیٹ فیس (لاکر کا کرایہ) بینک کی چیریٹی فنڈ پالیسی کے مطابق قائم کردہ چیریٹی فنڈ کیلئے وصول کرے گا



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

اصل مع 5,000/- روپے

ت) بریکنگ چارجز

لا کر ہولڈر کو ذیل میں تجویز کردہ حد تک ہر سائز کے لا کر کو مفت ہیکافل/انشورنس کوریج فراہم کی جائے گی۔

ٹ) لا کر ہیکافل/انشورنس چارجز

چھوٹا:	500,000/- روپے
درمیانہ:	1,000,000/- روپے
بڑا:	1,500,000/- روپے
انتہائی بڑا:	2,000,000/- روپے

ہیکافل/انشورنس کوریج

نوٹ: * لا کر فیسٹی صرف مقررہ برانچز پر ہی دستیاب ہے۔ رہنمائی کیلئے ازراہ کرم 021-1111-24365 پر رابطہ کریں۔

XIV - ویزا ڈیبٹ کارڈ چارجز

کلاسک/گولڈ چارجز	ویزا کلاسیک	ویزا گولڈ	پلاٹینم
درکار ابتدائی ڈپازٹ	5,000/- روپے	100,000/- روپے	1,000,000/- روپے
اجراء، سالانہ، دوبارہ اجراء، کارڈ فیس (بنیادی کارڈ - یونین پے انٹرنیشنل)	2,500/- روپے + آئی ای ڈی	3,600/- روپے + آئی ای ڈی	7,500/- روپے + آئی ای ڈی
سالانہ کارڈ فیس (ضمنی کارڈ - یونین پے انٹرنیشنل)	2,500/- روپے + آئی ای ڈی	3,600/- روپے + آئی ای ڈی	7,500/- روپے + آئی ای ڈی
اجراء، سالانہ، دوبارہ اجراء، کارڈ فیس (بنیادی کارڈ - پے پاک)	1,800/- روپے + آئی ای ڈی	-	-
اجراء، سالانہ، دوبارہ اجراء، کارڈ فیس (ضمنی کارڈ - پے پاک)	1,800/- روپے + آئی ای ڈی	-	-

* ڈیبٹ کارڈ کے چارجز کارڈ کے اجراء کی درخواست کے وقت وصول کیے جائیں گے۔

** سالانہ ڈیبٹ کارڈ چارجز مقررہ واجب الادا تاریخ پر وصول کیے جائیں گے۔

*** کسی بھی نئے کارڈ کے اجراء یا دوبارہ اجراء کی درخواست پر چارجز لاگو ہوں گے۔

کارڈز کی تبدیلی - ای ایم وی (یونین پے انٹرنیشنل کارڈ اینڈ ماسٹر کارڈ)

• درجے کی بلندی	متعلقہ ڈیبٹ کارڈ کے مروجہ شیڈول آف چارجز (SOC) کے مطابق
• گمشدہ یا چوری شدہ	
پرائمری کارڈ - یونین پے انٹرنیشنل کارڈ	2,500/- روپے + آئی ای ڈی
سپلیمنٹری کارڈ - یونین پے انٹرنیشنل کارڈ	2,500/- روپے + آئی ای ڈی
پرائمری کارڈ	-
سپلیمنٹری کارڈ	-
پرائمری کارڈ - پے پاک	1,800/- روپے + آئی ای ڈی
سپلیمنٹری کارڈ - پے پاک	1,800/- روپے + آئی ای ڈی
• میعاد ختم ہونے والا کارڈ	مفت

مقامی لین دین (غرانزیکشنز)

رقم نکلوانا (بینک مکرمہ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	مفت
رقم نکلوانا (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	35/- روپے
رسید کے ساتھ رقم نکلوانا (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	39.67/- روپے
رسید ATM سے رقم نکلوانے/بیلنس معلوم کرنے پر (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	4.67/- روپے
رقم نکلوانا (وائیٹ لیبل ATM پر بینک مکرمہ صارف)	57/- روپے یا اصل پر



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

بیلنس معلوم کرنا (بینک مکرمہ ATM پر بینک مکرمہ صارف)

مفت

بیلنس معلوم کرنا بنارسید کے (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	4.67/- فی ٹرانزیکشن
بیلنس معلوم کرنا بنارسید کے ساتھ (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	4.67/- فی ٹرانزیکشن

بیلنس معلوم کرنا بنارسید کے (وائیٹ لیبل ATM پر بینک مکرمہ صارف)	5.93/- روپے یا اصل پر
بیلنس معلوم کرنا بنارسید کے ساتھ (وائیٹ لیبل ATM پر بینک مکرمہ صارف)	5.93/- روپے یا اصل پر

ٹائٹل فچ چارجز نان بینکنگ اداروں کیلئے	5/- روپے
--	----------

سوئچ ڈسپوٹ ریزولیشن (SDRS) چارجز	25/- روپے فی ڈسپوٹ *
----------------------------------	----------------------

*نوٹ:

• ATM/POS ڈسپوٹ، ری ڈسپوٹ اینڈ ڈیبٹ اتھارٹی ٹرانزیکشنز وغیرہ کی صورت میں درست ڈسپوٹ کیلئے چارجز کا اطلاق کنندہ پر ہوگا

• ATM/POS ڈسپوٹ، ری ڈسپوٹ ٹرانزیکشنز وغیرہ کی صورت میں ان ویلڈ ڈسپوٹ کیلئے چارجز کا اطلاق جاری کنندہ پر ہوگا

• IBFT ڈسپوٹ، ری ڈسپوٹ اینڈ ڈیبٹ اتھارٹی ٹرانزیکشنز وغیرہ کی صورت میں چارجز کا اطلاق پر ہوگا

• FTDH تنازعہ کے اندراج پر تنازعہ چارجز لاگو ہوتے ہیں۔ غلطی پر پینکس پر چارجز لگائے جائیں گے اور روزانہ کیئرنگ کے طریقہ کار کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔

1-link کے مطابق، براہ کرم نوٹ کر لیں کہ اس وقت اے ٹی ایم/ دیگر 1-link چارجز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان میں ترمیم ریگولیٹری منظوری کے بعد کی جاسکتی ہے۔

بین الاقوامی لین دین (ٹرانزیکشنز)

• نقد رقم لکھوانا	4% یا کم از کم -400 روپے
• پی واپس ٹرانزیکشنز	4% یا کم از کم -400 روپے
• بیلنس معلوم کرنا	تمام بین الاقوامی مقامات پر -200 روپے فی ٹرانزیکشن
* کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن (اے ٹی ایم مرچنٹس) جو کہ آپ کے بینک مکرمہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ہے ان کو غیر ملکی کرنسی میں حل کیا جائے گا جس پر مارکیٹ کرنسی کنورژن ریٹس کے اطلاق کے ساتھ ساتھ مروریج شیڈول آف بینک چارجز بھی لاگو ہوں گے۔	
ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکلر نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں۔	

گورنمنٹ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی آن لائن کلکیشن	ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکلر نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
--	--

ٹرانزیکشن سلیب	
0-100,000	10/- روپے ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکلر نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
100,001-1,000,000	20/- روپے ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکلر نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
1,000,000/- سے زائد	50/- روپے ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکلر نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں

ٹرانزیکشنز کی واپسی/ واپس چارج	
--------------------------------	--

• مقامی ٹرانزیکشن	کلاسک	گولڈ
	250/- روپے *	250/- روپے *
	مع اصل یونین پے انٹرنیشنل کارڈ/ ماسٹر	

• بین الاقوامی ٹرانزیکشن	500/- روپے *	500/- روپے *
	مع اصل یونین پے انٹرنیشنل کارڈ/ ماسٹر	

ٹائٹل پرواپس چارج	500/- امریکی ڈالر *	500/- امریکی ڈالر *
	یاب مطابق اصل یونین پے انٹرنیشنل کارڈ/ ماسٹر چارجز	

ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پر ایس ایم ایس الرٹ	مفت
---------------------------------------	-----



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینک

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

Xvi - مکمل ایس ایم ایس الرٹ سبسکریپشن - سالانہ چارجز

صرف لوکل نمبر پر
-/2,220 روپے + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ماہانہ یا -/185 روپے + فیڈرل ایکسائز
ڈیوٹی سالانہ یا دیگر کرنسی کے مساوی

مفت	Xvii - ای - بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ)
مفت	کوئیک پے - بذریعہ ATM، ویب، موبائل ایپ
مفت	پے فاسٹ - ای کامرس پیمنٹ
مفت	Daraz.pk
	1Link کے تحت daraz.pk کیلئے ٹوکن دائیجیٹل اور بذریعہ Net Connect (انٹرنیٹ بینکنگ) بھی ادائیگی کی سہولت مکرمہ موبائل ایپ
مفت	QR کوڈ پیمنٹ
مفت (چارجز سے مستثنیٰ)	Xviii - ATM، ویب، موبائل کے ذریعے موبائل ریچارج (ایئر-ٹائم پر چارج)
ماہانہ 25000 روپے فی اکاؤنٹ کی بھیجی جانے والی ایک کم سے کم مجموعی حد تک انفرادی کسٹمرز کے لیے فری آئی بی ایف ٹی سروسز، کسی بھی اکاؤنٹ سے 25000 روپے ماہانہ کی مجموعی حد سے تجاوز کرنے والی ٹرانزیکشنز کے لیے ٹرانزیکشن رقم کا 0.1% فیصد یا 200 روپے، ان میں سے جو بھی کم ہو کے برابر کسٹمر کو ایک ٹرانزیکشن فیس عائد کی جائے گی۔ ان چارجز میں تمام لاگوسروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس شامل ہوں گے۔	ATM، ویب، موبائل کے ذریعے IBFT (انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر)
مفت	آئی بی ایف ٹی بذریعہ راست چینل سے راست چینل پر
1/- روپے	انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر (آئی بی ایف ٹی جیسے کہ بذریعہ آئی ایم، انٹرنیٹ بینکنگ، بینک مکرمہ موبائل (ایپ) اور یونین پوائس ایس ڈی) کیلئے
مفت	نیشنل فینچ چارجز
	ہوم ریپیٹنس ای ڈیوڈنڈ
مفت	ATM، ویب، موبائل کے ذریعے یوٹیلیٹی بل ادائیگی (یوٹیلیٹی بل پیمنٹ)
مفت	ATM، ویب، موبائل کے ذریعے کارڈ بیلو کی ادائیگی
مفت	1- بل پیمنٹ بذریعہ ATM، ویب، موبائل

چارجز کا خاتمہ *

ڈاک، کوریئر، ٹیلیفون، ٹیکس اور فیکس چارجز ان اکاؤنٹ ہولڈرز سے جو بینک کے عمومی پُل میں کرنٹ، بچت سیونگ اکاؤنٹ اور/یا ڈی ملی سیونگ اکاؤنٹ میں ماہانہ اوسط بیلنس 0.25 ملین روپے یا اس کے
مساوی برقرار رکھتے ہیں وصول نہیں کیے جائیں گے۔ استثناء کی دریافت کے مقصد کیلئے گزشتہ ماہ کا اوسط بیلنس استعمال کیا جائے گا؛ درج ذیل اقسام کی ٹرانزیکشنز پر ایسے صارفین سے کمیشن بھی نہیں لیا جائے گا۔

۱- پے آرڈر سی ڈی آر کا اجرا اور تینج

۲- آؤٹ ورڈ ریپیٹنسز - مقامی و بیرونی

۳- ان ورڈ ریپیٹنسز - مقامی و بیرونی

۴- مقامی اور بیرونی کرنسی چیکس کی وصولی

۵- اکاؤنٹس کے گوشوارے

۶- ریٹرنڈ چیکس (چیک ریٹرن چارجز اب لاگو ہیں)



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۷۔ چیکس کی ادائیگی روکنا

۸۔ اسٹینڈنگ انسٹرکشن فیس

۹۔ بیلنس کنفرمیشن/سرٹیفکیٹ اسٹیٹمنٹ کا اجرا

ڈیپٹ کارڈ کا اجرا (صرف پاکستانی روپے کے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے CUP
(چارجز ایک ماہ بعد واپس کر دیے جائیں گے)

۱۰۔ نقد نکوانے کی رسیدوں کا اجرا

۱۱۔ M فارم کی منظوری

کیش کلیکشن سروسز: اگر وصولی کی رقم 5 لاکھ روپے یا اس سے زائد ہو اور/یا ماہ میں دو مرتبہ
ہو (اگر صارف دیگر سہولیات جیسے صارف کے مقام پر اے (ٹی ایم) کی تنصیب،
یہ پلائی بینکنگ وغیرہ حاصل کر رہا ہو تو یہ شق لاگو نہیں ہوگی

۱۲۔ نقد رقم وصولی کی خدمات اگر وصولی 0.500 ملین روپے کے مساوی ہو اور/یا اس سے اوپر

۱۳۔ نقد رقم وصولی کی خدمات اگر وصولی 0.500 ملین روپے کے مساوی ہو اور/یا اس سے اوپر

۱۴۔ اسی دن کلیئرنگ کے چارجز

۱۵۔ چیک بک کے اجرا کے چارجز

۱۶۔ ہولڈ میل چارجز

(۱) بینک مکرمہ کا عملہ ان تمام چارجز سے مستثنیٰ ہے۔

(ب) درج ذیل طبقات اکاؤنٹ اوپننگ، مینٹیننس اور کلوژنگ چارجز کے اطلاق سے مستثنیٰ ہیں۔ مزید برآں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق درج ذیل اکاؤنٹ
کھولنے کی غرض سے ابتدائی طور پر درکار ضروری بیلنس سے بھی مستثنیٰ ہیں۔

(i) طلبا

(ii) مستحقین زکوٰۃ

(iii) عمر رسیدہ شہری

(iv) سرکاری ملازمین/نیم سرکاری ادارے بغرض تنخواہ اور پنشن بشمول متوفی ملازمین کی بیوہ/بچے جو اہل ہوں فیملی پنشن/بینیٹیٹ فنڈ/گرائنٹ وغیرہ

* تاہم زائد اخراجات وصول کیے جائیں گے۔

فنانس فیسلٹی حاصل کرنے والے صارفین کیلئے سروس چارجز، فیس اور کمیشنز مینجمنٹ کی ٹرمز آف دی فیسلٹی (فیسلٹیئر) کی منظوری پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ فیس/کمیشنز مینجمنٹ کی منظوری پر
ان ٹرانزیکشنز کیلئے معاملہ بہ معاملہ کی بنیاد پر مکمل طور پر معاف کیے جاسکتے ہیں یا کم کیے جاسکتے ہیں۔

نوٹ:

(۱) تمام سرکاری ایکسائز ڈیوٹی/ٹیکس/زکوٰۃ وغیرہ کسٹمرز اکاؤنٹ کیلئے ہیں اور درج بالا چارجز کے علاوہ وہ منہا کیے جائیں گے۔

(ب) آؤٹ آف پاکٹ اخراجات تمام بینک خدمات کیلئے وصول کیے جائیں گے جن کا احاطہ شیڈول میں نہیں کیا گیا ہے۔

(پ) تمام زمروں میں چارجز پاکستانی روپوں یا بیرونی کرنسی میں وصول کیے جائیں گے۔

(ت) کوریئر چارجز اور ڈاک تمام خدمات پر جہاں بھی لاگو ہیں علیحدہ وصول کیے جائیں گے۔

(ث) کرو سوپونڈنٹ بینک چارجز شیڈول کے مطابق ہمارے چارجز کے علاوہ اصل پر وصول کیے جائیں گے۔

(ث) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلقہ چارجز بینک اور متعلقہ صارف کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔

(ج) بینک انتظامیہ کسی یا تمام چارجز میں ترمیم یا تیشیح کے حقوق محفوظ رکھتی ہے۔ تاہم ایسی ترمیم/تیشیح کیلئے متعلقہ بزنس ہیڈ اور ہم رتبہ کو بینک کے ”ریڈیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر“ (RSBM) سے منظوری
لینا ہوگی۔

(ج) بینک انتظامیہ ان تمام خدمات جس میں غیر معمولی کام شامل ہوتا ہے پر اضافی چارجز وصول کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

(ح) کسی نئے پروڈکٹ (س) اور سروس (ز) اور چارجز کی صورت میں اسے آنے والے شیڈول آف چارجز (SOC) میں شامل کر لیا جائے گا۔

چیریٹی فنڈ پالیسی

بینک مختلف فنانسنگ پروڈکٹس اور سروسز پر بینک کی منظور کردہ چیریٹی فنڈ پالیسی کے مطابق فیسلٹی ایڈوائزنگ لیٹر آف دی بینک میں مجوزہ طریقہ کار اور شرح سے چیریٹی فنڈ پالیسی کے کسی قاعدے کی
خلاف ورزی کیے بغیر چیریٹی (خیرات و صدقات) وصول کرے گا۔

قابل اطلاق چیریٹی شرح کسٹمر کیلئے فیسلٹی پرائنگ 2% زائد فیسلٹی ایڈوائزنگ لیٹر (FAL) ایگریمنٹ میں ظاہر کردہ ہے۔